


# FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

**Appeal No.** 2524/2023

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	05/12/2023	<p>The appeal of Ms. Rabia Khatoon resubmitted today by Sardar Muhammad Asif Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at A.Abad on _____</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

The appeal of Mst. Rabia Khatoon received today i.e on 20.11.2023 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days:


- 1- Check list is not attached with the appeal.
- 2- Appeal has not been flagged/marked with annexures marks.
- 3- Address of appellant is incomplete which may be completed according to rule-6 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal rules 1974.
- 4- Annexures of the appeal are unattested.
- 5- In each and every documents the name of the appellant be highlighted.
- 6- Copy of appointment order in respect of appellant be placed on it.
- 7- Annexure-A (Page no. 8 to 15 & 25) of the appeal are illegible which may be replaced by legible/better one.
- 8- Five more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 3646 /S.T.

Dt. 21/11 /2023.




REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

  
Sardar Muhammad Asif Adv.  
High Court A.Abad.


اعتراف سے رہا 8 Remand کر دیا گیا ہے  
اصل کے کڑوائی جا رہی ہے

- Remand 1 اعتراف سے رہا
- Remand 2 اعتراف سے رہا
- Remand 3 اعتراف سے رہا
- Remand 4 اعتراف سے رہا
- Remand 5 اعتراف سے رہا
- Remand 6 اعتراف سے رہا
- Remand 7 اعتراف سے رہا
- Remand 8 اعتراف سے رہا



5/12/23

اسی دلائل سے Delete کر دیا گیا اور 4 کا ہیں  
میراہ قابل ہیں



5/12/23

D

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER**  
**PAKTUNKHWA PESHAWAR**

2524  
Appeal No. \_\_\_/2023

Rabia Khatoon R/o Teacher Government Girls Primary School Karna  
Hassan Zai Torghar.

**...APPELLANT**  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Diary No. 9735

Dated 20-11-2023

V/S

1. Secretary elementary and Secondary Education KPK, Secretariat  
Peshawar.
2. Director elementary and Secondary Education KPK Directorate  
Peshawar.
3. District Education Officer (Female) Torghar.

**...RESPONDENTS**

---

**APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT 1974, AGAINST  
THE IN-ACTION OF RESPONDENTS QUA TRANSFER OF THE  
APPELLANT TO THEIR NATIVE DISTRICT I-E MANSHERA  
FROM DISTRICT TORGHAR DESPITE OF THE FACT THAT  
APPELLANT HAVE ALREADY SPENT (10 YEARS) MUCH MORE  
TIME THEN THE STIPULATED/PRISCRIBED PERIOD AS PER  
LAW AND AS PER CONTRACT SIGNED BETWEEN APPELLANT  
AND DEPARTMENT.**

AND

NON GRANTING OF BPS-15 TO THE APPELLANT AFTER  
ALMOST TEN YEARS OF CONTINUES SERVICE, UNLIKE  
OTHER SIMILAR PLACED TEACHERS OF DISTRICT MANSHERA

AND

---

Filed in/day  
20/11/23  
Registrar

(PAG)

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER**  
**PAKTUNKHWA PESHAWAR**

2524  
Appeal No. 2524/2023

Rabia Khatoon Teacher GGPS Karna Hassan Zai Torghar R/o Torghar

...APPELLANT

V/S

Director Elementary and Secondary Education & Others

...RESPONDENTS

**SERVICE TRIBUNAL**


**INDEX**


S.No	Description	Page No	Annexure
1	Service Appeal Along with Affidavit		1-5
2	Copy of Appointment Order	"A"	6-7
3	Copy of One of Affidavit	"B"	8-9
4	Copy of Departmental Appeal	"C"	10-12
5.	Vakalat Nama		15

  
...APPELLANT

Date 17/11/23

Through

  
(Sardar Muhammad Asif)

  
(Muhammad Asjad Pervaz Abbasi)  
Advocates, High Court  
Abbottabad

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER**  
**PAKTUNKHWA PESHAWAR**

Appeal No. 2524/2023

Rabia Khatoon Teacher GGPS Karna Hassan Zai Torghar R/o Torghar

...APPELLANT

V/S

1. Director Elementary and Secondary Education KPK Directorate Peshawar.
2. District Education Officer (Female) Torghar.

...RESPONDENTS

---

APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT 1974, AGAINST THE IN-ACTION OF RESPONDENTS QUA TRANSFER OF THE APPELLANT TO THEIR NATIVE DISTRICT I-E MANSHERA FROM DISTRICT TORGHAR DESPITE OF THE FACT THAT APPELLANT HAVE ALREADY SPENT (10 YEARS) MUCH MORE TIME THEN THE STIPULATED/PRISCRIBED PERIOD AS PER LAW AND AS PER CONTRACT SIGNED BETWEEN APPELLANT AND DEPARTMENT.

AND

NON GRANTING OF BPS-15 TO THE APPELLANT AFTER ALMOST TEN YEARS OF CONTINUES SERVICE, UNLIKE OTHER SIMILAR PLACED TEACHERS OF DISTRICT MANSHERA

AND

AGAINST NON-REDRESSAL OF GREVIANCE OF APPELLANT DISPITE OF REPEATED APPLICATION/PETITION/APPEAL FILED BY THE APPELLANT.

AND

AGAINST THE DISCRIMINATION BEING FACED BY THE APPELLANT AT THE HANDS OF AUTHORITIRS/RESPONDENTS WHEREBY SIMILARLY PLACED EMPLOYEES WERE TRANSFERRED AND APPELLANT ARE LEFT TO FACE RIGORS OF HARD AREAS.

---

**PRAYER:**

ON THE ACCEPTANCE OF INSTANT APPEAL THE RESPONDENT'S MAY BE DIRECTED TO TRANSFER THE APPELLANT TO THEIR NATIVE DISTRICT I-E MANSHERA AS PER POLICY, FROM DISTRICT TORGHAR, AND RESPONDENTS MAY ALSO BE DIRECTED TO GRANT BPS-15 TO THE APPELLANT LIKE OTHER SIMILAR PLACED TEACHERS AND RESPONDENTS ALSO BE DIRECTED TO TRANSFER APPELLANT, ANY OTHER RELIEF WHICH IS DEEMED FIT AND PROPER IN THE CIRCUMSTANCES BE CASE MAY ALSO BE GRANTED TO THE APPELLANT.

---

Respectfully Sheweth:

1. That, the appellant is hailing from District Manshera and are highly educated, having qualification of MA, M.ED, and B.ED etc.
2. That, the appellant were inducted into service on merits as PST BPS-12 in 2013 and 2015 respectively on the strength of District Manshera and were assigned duties to different schools of Torghar, which was once happened to be a provincial administrative tribal area, controlled and managed from District Manshera. (Copy of Appointment Order is attached as Annexure "A")
3. That, at the time of appointment, the appellant were directed by the respondents to execute affidavit, individually to the effect that they would serve at torghar continuously for three years without any demand of transfer to their native District nor they would leave the service and after completion of such stipulated period they would be transferred to their own district. The appellant submitted above said affidavit to the respondents. (Copy of One of Affidavit is Annexed as Annexure "B")
4. That, besides appellant, there were other teacher who belonged to District Shangla, who were transferred to their District after completion of period of three years as were mentioned in affidavit, and few of them transferred to District Manshera recently.
5. That, since appointment, the appellant were serving at District Torghar, and on completion of agreed period of three years, the appellant moved many application to different forums for their transferred as per law, to their own District but in vain. (Copy of Departmental Appeal is Attached as Annexure "C")
6. That, the appellant had been serving the department since 2013 and are still working in BPS 14 to some of the appellant and other are still in BPS-12 unlike other similar teachers of other Districts who had already been granted BPS-15 which itself is a classical example of discrimination. The appellant is entitled for the same scale i-e BPS-15.
7. That, the appellant filed a complained/appeal to the respondents for the redressal of their grievance which has not been decided up till now, hence instant appeal.

Feeling aggrieved from above mentioned in-actions and discriminations of respondents, the appellant have come to this honorable Court on the following inter-alia amongst many other grounds:-

**GROUNDS:**

1. That, the in-action of non-transferring of appellant to their own District even after spending much more time than stipulated period of three year is illegal, unlawful, perverse, unilateral and against the settled principle of natural justice and fair play.
2. That, as per government policy regarding hard areas, the civil servant must be transferred after one year maximum.
3. That, a lot of similarly placed teachers had already been transferred to their District more particularly District Shangla. Non-transferring of appellant is nothing but to corner the appellant and the appellant is simply victimized of discrimination by the respondents.
4. That, the appellant is female and have to travel for 3 to 4 hours continuously to reach at their destination with fare of almost Rs. 4,000/- per trip, even then the grievance of appellant are not being redressed.
5. That, the appellant had been serving the department since 2013 and are still working in BPS 14 to some of the appellant and other are still in BPS-12 unlike other similar teachers of other Districts who had already been granted BPS-15 which itself is a classical example of discrimination. The appellant is entitled for the same scale i-e BPS-15.
6. That, despite of the continues application/ appeal/ petition/complaint the appellant are still waiting for justice, but a duff ear turn towards them.
7. That, even the transferred policy of the government is put in abeyance by the respondents and the appellant is constrained to serve at the place for along eleven years, which is otherwise hard one.
8. That, other point would be raised at the time of arguments.
9. That, the appeal in hand is well within time.
10. That, the honorable court has exclusive jurisdiction to adjudicate and proper court fee has been annexed.
11. That, notices of appeal in hand has also been issued to respondents.

PRAYER:-


IT IS THEREFORE, HUMBL Y PRAYED THAT ON THE ACCEPTANCE OF INSTANT APPEAL THE RESPONDENTS MAY BE DIRECTED TO TRANSFER THE APPELLANT TO THEIR NATIVE DISTRICT I-E MANSHERA AS PER POLICY, FROM DISTRICT TORGHAR, AND RESPONDENTS MAY ALSO BE DIRECTED TO GRANT BPS-15 TO THE APPELLANT LIKE OTHER SIMILAR PLACED TEACHERS AND RESPONDENTS ALSO BE DIRECTED TO TRANSFER APPELLANT, ANY OTHER RELIEF WHICH IS DEEMED FIT AND PROPER IN THE CIRCUMSTANCES BE CASE MAY ALSO BE GRANTED TO THE APPELLANT.

  
...APPELLANT

Date 17/11/22 Through

  
(Sardar Muhammad Asif)


&

  
(Muhammad Asjad Pervaz Abbasi)  
Advocates, High Court  
Abbottabad

VERIFICATION:-

Verification on oath that contents of the foregoing appeal are true and correct to best of my knowledge and belief and nothing concealed from this honorable tribunal.







5

~~2~~

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER**  
**PAKTUNKHWA PESHAWAR**

Appeal No. \_\_\_\_/2023

Rabia Khatoon R/o Teacher Government Girls Primary School Karna  
Hassan Zai Torghar.

...APPELLANT

V/S

Secretary Elementary and Secondary Education & Others

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT**

I, Rabia Khatoon R/o Teacher Government Girls Primary School  
Karna Hassan Zai Torghar, solemnly affirm and declare on oath that  
the contents of the titled "Instant Appeal" are true and correct to  
the best of my knowledge belief and nothing has been concealed  
from this honorable court.

Date. 17/11/23

  
...DEPONENT

AP  
19/11/23

2013 میں بھرتی ہونے والی اساتذہ جنتو NOC فراہم کی گئی

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) TOR GHAR

اضلاع اپنے اپنے ذیلی اساتذہ کے لئے درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں

OFFICE ORDER/APPOINTMENT

Anna A'6



Consequent upon the recommendation approval of the District selection Committee Torghar in its meeting held on 18/01/2013 the Competent Authority is pleased to appoint the following fresh trained female candidates on merit having the prescribed qualification in BPS 12 (Rs. 7000 - 900-22000) plus usual allowances as admissible under the rules against the vacant post of P31 (Female) mentioned against each their names on regular basis under the existing policy of the Provincial Govt on terms and conditions given below with effect from the date of their taking over charge in the interest of public service.

"Tappa Wise" District Torghar

S.No	Candidate NAME	Father's Name	Tappa	Qualif:	Score	School/Station where posted	Zone	Remarks
1	Sumaira Gul	Muhammad Ismaeel	Hassan Zai	BA	42.41	GGPS Marcot (HZ)	Summer	Against V /P
2	Farzana Habib	Habib Khan	Bassikhail	BA	42.38	GGPS Gul Dheri (BK)	Summer	Against V /P
3	Saba Gul	Shah Jahan	Mada Khail	BA	42.05	GGPS Maira Mada Khail	Summer	Against V /P

"Open Merit" Adjacent Districts

S.N	Candidate Name	Father's Name	Domicile	Qualif:	Score	School/Station where Posted	Zone	Remarks
1	Ayasha Humma Swali	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	77.88	GGPS Pailso (HZ)	Summer	Against V /P
2	Adeela Shaukat Swali	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	75.70	GGPS Gachi (HZ)	Summer	Against V /P
3	Faiza Tabassum	Muhammad Bashir	Mansehra	MSc	75.65	GGPS Greta (BK)	Winter	Against V /P
4	Aisha Bibi	Faqir Muhammad	Mansehra	MSc	75.50	GGPS Kand Dala (BK)	Summer	Against V /P
5	Noshreen Kanwal	Sikandar Hayat	Mansehra	MA	65.30	GGPS Gul Dalree (BK)	Summer	Against V /P
6	Phool Bibi	Muhammad Farooq	Mansehra	MA	64.11	GGPS Zeezari (BK)	Summer	Against V /P
7	Raham Bibi	Zamnat Khan	Shangla	BSc	63.78	GGPS Khadang (AZ)	Summer	Against V /P
8	Safia Bibi	Syed Sultan Shah	Mansehra	MA	63.13	GGPS Kand Paaynep (AZ)	Winter	Against V /P
9	Sadia Shoukat	Muhammad Shoukat	Mansehra	MA	62.54	GGPS New Killay (HZ)	Summer	Against V /P
10	Bibi Saeeda tun Nisa	Oari Abdul Rashid	Mansehra	MA	61.80	GGPS Bimbal (AZ)	Summer	Against V /P

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

*HEIR COPY*

## Office Order/Appointment


Consequent upon the recommendation approval of the district selection committee tor ghar in its meeting held on 18-01-2013 the competent authority is pleased to appoint the following fresh trained female candidates on merit having the prescribed qualification in BPS-12 (Rs.7000 500-22000) plus usual allowances as admissible under the rules against the vacant post to PST (Female) mentioned against each their names on regular basis under the existing policy of the Provincial Govt on terms and condition given below with effect from the dates of their taking over charge in the interest of public service.

### "Tappa Wise District Tor Ghar

S.No	Candidate Name	Father Name	Tappa	Quaif	Score	School/Station where posted	Zone	Remarks
1	Sumaira Gul	Muhammad Ismaeel	Hassan Zai	BA	42.41	GGPS Mareer (HZ)	Summer	Against V/P
2	Farzana Habib	Habib Khan	Bassikhail	BA	42.38	GGPS Gul Dheri (BK)	Summer	Against V/P
3	Saba Gul	Shah jahan	Mada Khail	BA	42.05	GGPS Maira Made Khail	Summer	Against V/P

### "Open Merit" Adjacent Districts

S.No	Candidate Name	Father Name	Domicilo	Quaif	Score	School/Station where posted	Zone	Remarks
1	Ayesha Humma Swati	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	77.88	GGPS Palosa (HZ)	Summer	Against V/P
2	Adeela Shaukat Swati	Muhammad Shaukat Khan	Mansehra	MSc	76.70	GGPS Garhi (HZ)	Summer	Against V/P
3	Faiza Tabassum	Muhammad Bashir	Mansehra	MSc	75.65	GGPS Geeto (BK)	Winter	Against V/P
4	Aisha Bibi	Faqir Muhammad	Mansehra	MSc	75.00	GGPS Kanda Bala (BK)	Summer	Against V/P
5	Nosheen Kanwal	Sikander Hayat	Mansehra	MA	65.80	GGPS Gul Dairee (BK)	Summer	Against V/P
6	Phool Bibi	Muhammad Farooq	Mansehra	MA	64.11	GGPS Zeezari (BK)	Summer	Against V/P
7	Raham Bibi	Zamanat Khan	Shangla	BSc	63.78	GGPS Khadang (AZ)	Summer	Against V/P
8	Safia Bibi	Syed Sultan Shah	Mansehra	MA	63.13	GGPS Kand Paayeen (AZ)	Winter	Against V/P
9	Sadia Shoakat	Muhammad Shoukat	Mansehra	MA	62.64	GGPS New Killay (HZ)	Summer	Against V/P
10	Bibi Saeeda tun Nisa	Qari Abdul Rashid	Mansehra	MA	61.80	GGPS Bimbal (AZ)	Summer	Against V/P
11	Sobia Bibi	Abdul Hamid	Mansehra	MA	58.74	GGPS Bimbal (AZ)	Summer	Against V/P
12	<i>Rabia</i>	<i>Aurangzeb</i>	<i>Mansehra</i>	MA	58.64	GGPS Judba	Summer	Against V/P
13								Against V/P
14	Zahirat Bibi	Rahim Shah	Shangla	BSc	58.00	GGPS Kander (BK)	Summer	Against V/P
15	Nazia Haroon	Muhammad Haroon	Mansehra	MA	57.16	GGPS Gangi (HZ)	Winter	Against V/P
16	Shagulia Bibi	Hazrat Younas	Shangla	MA	55.89	GGPS Cirapa Biratoni (BK)	Winter	Against V/P
17	Tahira Bibi	Abdul Qayyum	Mansehra	BSc	53.52	GGPS Arbay Jalband (AZ)	Winter	Against V/P
18	Farheena Ali Akbar	Ali Akbar	Mansehra	MA	55.42	GGPS Murata (AZ)	Winter	Against V/P



Handwritten text in Urdu script, consisting of approximately 10 lines. The text is written in a cursive style and appears to be a formal declaration or a letter. The content is difficult to decipher due to the cursive nature of the script.



Handwritten initials or a signature, possibly 'M Y / S B', written below the official stamp.

Handwritten initials 'S B' and a signature, with the word 'ATTESTED' written in a bold, blocky font below them.

Handwritten text at the bottom of the page, including what appears to be a signature and some illegible text.

BETTER COPY

Page no 4

بین طہنی

مکہ سادات نبویؐ کی دعا و خیر سید المرسلینؐ سے غیر آباد تھیں بلا کوئی قطع مائتہ

حقاً یہی ہیں کہ حقہ سطاؤنت حکم ایچو کھین جن انٹرو لو وغیرہ باہ

اگر حکم حقہ کو قطع تو غسر میں کسی جی سکول میں نصیرات کر دیا تو حقہ وہاں ہم

ڈیوٹی نہ انجام دے گا پابند ہوگا کہ درجہ سال تک کوئی تبدیلی حقہ نہیں کر سکتے

اور اگر سطاؤنت چھوڑ سکا اگر حقہ درجہ میں کے اندر تبدیلی کے پلاؤنت

چھوڑ سکا تو حکم وادہ خوارا وقت حقہ کے خلاف کاروائی کرنے کا حجاز

ہوگا۔ بین طہنی سطاؤنت خیر ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صداۃ نبویؐ کی دعا

13503-295774-2

Anna C

16 خدمت جناب سیکرٹری صاحبہ ایگزیکٹو ڈپٹی ایجوکیشن پشاور۔

عنوان:-

جناب عالی!

موجودہ گزارش کی جاتی ہے کہ 2013ء میں ضلع مانسہرہ سے ضلع تورغر تعینات کئے گئے تھے۔ اس شرائط کے ساتھ کہ ہمیں تین سال بعد اپنے ضلع ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ مگر گیارہ سال ہونے کو ہیں اور ہمیں ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا۔

جبکہ اس دوران 45 سالہ اور ضلع تورغر سے تعلق رکھنے والی اساتذہ سفارش اور اعلیٰ تعلقات کی بناء پر اپنے اضلاع ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ یہ سب آپ کے علم میں ہے۔

جناب عالی! DEO (Female) تورغر نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اب ایک یا دو ٹیچرز تورغر سے ٹرانسفر نہیں ہوں گی۔ بلکہ آپ سب کو ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ جبکہ شازیہ زیب جی جی پی ایس سرگوا اور رضوانہ جی جی پی ایس شوکانی ضلع مانسہرہ اور ایٹ اے ڈاٹر ٹرانسفر ہو چکی ہیں۔ کیا ان کے جناے سے Staff Gap نہیں ہوگا؟؟ کیا سکول بند نہیں ہونگے؟ کیا ٹیچرز کی کمی نہیں ہوگی؟؟؟

جناب عالی!

ہم تو آپ سے انصاف کی امید لگائے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ شازیہ زیب 2017ء میں Appoint ہوئی۔ مگر ٹرانسفر ہم سے پہلے ہو رہی۔ اس سیمیا بی بی 2016ء میں Appoint ہوئی مگر ان کی ٹرانسفر کو بھی سال گزر چکا ہے۔ اور اس سہ ماہی تورغر ڈویژنل ہولڈ تھیں۔ کس قدر زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس لیے ہمارے پاس کوئی بڑی سفارش نہیں؟؟

جناب عالی! ضلع مانسہرہ سے بھرتی ہونے والی چند اساتذہ کو سکیل 14 دیا گیا ہے جس میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اگر سکیل 14 یا NOC نہیں دی جاسکے گی۔ اگر سکیل 14 لینے تو ٹرانسفر کی صورت میں آپ کو سکیل 14 Refuse کرنا پڑے گا۔ ہماری بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہم نے تعلیمی قابلیت ہونے کے باوجود سکیل نہیں لیا کیونکہ ہمارے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہیں ہمارے بچے دوسروں کے رحم و کرم پر پل رہے ہیں۔

جناب عالی! ترقی کے نہیں چاہیے اگر ہم اپنے گھروں سے ڈیوٹی پر قرار رکھ سکتے تو ہم سکیل 14 لازمی لیتے

11 سالوں سے ہم سکیل 12 میں ہی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔

جناب عالی! آپ کے پاس اپنے سکول چلانے کیلئے کئی اور راستے ہیں ہماری زندگیوں قربان کرنے کا راستہ کیوں؟؟؟ ہم ساری زندگی تو رغر کے نام نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے دوسروں کے رکھم و کرم پر رہ رہے ہیں۔ ہمارے گود کے بچے آئے روز نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ ان تمام باتوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لہذا تمام ٹیچرز کا آپ سے پروردار مطالبہ ہے کہ ان ٹیچرز کی ٹرانسفر کو روکا جائے یا پھر ہم سب کو ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم عدالت کا رخ کریں گے۔ سیکرٹریٹ جائیں گے۔ سکول بند کریں گے اور جو مناسب ہوا اپنے حق کے لیے کریں گے۔ ضلع ماسنہرہ سے تعلق رکھنے والی اساتذہ کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

المرقوم: 20-07-2023

<del>Dear</del>	13501-1295774-2	جی جی پی ایس بھیل	بی بی سلمی نگار	۱
<del>Rabia</del>	13503-0491117-0	جی جی پی ایس کرنل حسن زئی	رابوہ خاتون	۲
<del>Nila</del>	13501-3879556-0	جی جی پی ایس بگدو	صاعقہ	۳
<del>Nila</del>	13501-9098694-6	جی جی پی ایس جلینگ	ناکلہ بی بی	۴
<del>Saimon</del>	13503-5580290-8	جی جی پی ایس کمال باٹھ	بشرہ بی بی	۵
<del>Gu</del>	13504-7245998-6	جی جی پی ایس باٹھ دوست محمد	صائمہ بی بی	۶
<del>Gu</del>	13501-042148-0	جی جی پی ایس دارو	تنزیلہ امان	۷
<del>Gu</del>	13501-1289875-0	جی جی پی ایس اورمل	ناکلہ بی بی	۸
<del>Patun</del>	13504-948480-1-6	جی جی پی ایس گلہ بند	روبینہ بی بی	۹
<del>Shahroz</del>	13504-1691737-0	جی جی پی ایس گڑھی جدیہ	طاہرہ بی بی	۱۰
<del>Shahroz</del>	13503-1884845-4	جی جی پی ایس کنڑے	شہناز بی بی	۱۱
<del>Lu</del>	48801-85729818	جی جی پی ایس ٹھوٹے کھارنج	سعدیہ بی بی	۱۲
<del>Sain</del>	13504-0574838-0	جی جی پی ایس مورائیاں	صائمہ بی بی خاتون	۱۳
<del>Farhan</del>	13503-9493867-4	جی جی پی ایس کنڈ پائیں	فرینہ بی بی	۱۴
<del>Gu</del>	13503-7790636-8	جی جی پی ایس مرادو	صفیہ بی بی	۱۵
<del>Temina</del>		جی جی پی ایس مکینہ	مکینہ	۱۶

ATTESTED

بخدمت جناب چیف منسٹر صاحب خیبر پختونخوا اور پشاور۔

District Office

جناب عالی

موجودہ نذر نش سے۔ اور نذر نش PST BPS-12 پر 2013 میں مین  
 نوٹ پر ضلع ہاشمہ کے ضلع تورخم میں زون ٹیو۔ تعلیمی قابلیت، سٹڈی اور جیٹورن قابلیت M.Ed.  
 اور B.Ed اور PTC ہے۔ اور کے ضلع تورخم میں 11 سالہ کم عمر ہو گئے ہیں۔ ہماری عمر نذر نش میں  
 نذر نش کے تورخم میں ہر تین سالہ کم عمر ہے۔ بعد اپنی ٹرانسفر ضلع ہاشمہ میں آ رہے ہیں۔ جبکہ  
 ان کے ضلع NOC نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے مہلہ میں ضلع شنگھائی کی 25 اور تقریباً 20 اساتذہ  
 ضلع ہاشمہ میں ٹرانسفر کی ہیں۔

جناب عالی ضلع ہاشمہ میں 2013 میں نذر نش ہونے والے اساتذہ و سیکس 14 دیا گیا ہے۔  
 ان میں شریہ کی کمی تھی اس سبب 14 میٹھے تو آپ کو ٹرانسفر کے بعد دوبارہ سیکس 14  
 Refuse کر دیا ہے۔ لیکن ہم نے اس کے خلاف یہ اپنی بھی دے دی۔ کیونکہ ہمارے گھر پر  
 عورت بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے بچے اور بچے کے گھر پر رہ رہے ہیں۔  
 جناب عالی نذر نش کے ضلع ہاشمہ میں ہونے سے دور رہنے والی رہے اور کہہ سکتے تو ہم سیکس  
 دینی ہے 2013 کے خلاف چند معاملات ہیں جس وقت 12 سیکس میں ہیں۔

لہذا آپ جناب سے استدعا ہے کہ ذمہ داری ایجوکیشن آفیسر تورخم کو  
 عطا کرنا ہو جسے کہ جسے NOC فراہم کر کے۔ کیونکہ ہمارے پاس آپ کے عہدہ دینی دانی  
 کے لئے ضلع ہاشمہ میں ایجوکیشن آفیسر کے پاس (تورخم سے) نذر نش آ رہے ہیں۔ ہماری آخری امید  
 آپ سے ہے۔ لیکن خلاف ہو جائے۔ تو ہم کو کیا کر سکتے ہیں۔  
 عہدہ دینی کے لئے ہم کو کوئی حق رہتا ہے۔ ہم نے پہلے دینی بھی دی ہے۔ اس لئے ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو  
 ہم بھی نہ سہا رہتے۔

لہذا مہربانی فرمائے ہماری درخواست پر غور کیا جائے۔

الذمہ





GOVERNMENT OF  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

13

No. SO E&SED (P/F)2-1/Torghar/2023  
Dated Peshawar, the 24<sup>th</sup> July, 2023

To

The Director,  
E&SE Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar.

Subject: - DEPARTMENTAL APPEAL

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose herewith a copy of the explanatory of joint appeal submitted by Bibi Salma Nagar GGPS Bembal District Torghar and others for submission of views/comments within 07-days positively for further processing of the case accordingly.

Encl: As above.

Encl: of copy No & date: -

Copy forwarded to: -

1. PS to Secretary E&SE Department Khyber Pakhtunkhwa.
2. Master File.

SECTION OFFICER (P/F)

SECTION OFFICER (P/F)

CF  
~~ATTACHED~~

14

**GOVERNMENT OF  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT**

---

No. SO/E&SED (P/F)2-1/Torghar/2023

Dated Peshawar the 24<sup>th</sup> July, 2023-11-30

To

The Director  
E&SE Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar

Subject: DEPARTMENTAL APPEAL.

I am directed to refer the subject cited above and to enclose herewith a copy of above explanatory of joint appeal submitted by Bibi Salma Nagar GGPS Bembal District Torghar and others for submission of views/ comments within 07-Days positively for further processing of the case accordingly.

Ends As above.


**SECTION OFFICER (P/F)**

Endst: of even No & date:

Copy forwarding to the:-

1. PS to Secretary E&SE Department Khyber Pakhtunkhwa.
2. Master File.

**SECTION OFFICER (P/F)**



Mobile: 0346-9225049  
CNIC: 37405-657620-1

وکالت نامہ  
Email: malanawaz@asjadadv.com

بعدالت سروس ٹرانسپورٹ کورٹ P.O. کراچی

عنوان: زبیرہ خانم نام

منجانب: ایوان

توجیہ مقدمہ: سروس ٹرانسپورٹ

### باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کل کاروائی متعلقہ آل مقام

سردار محمد آصف / محمد اکبر پرویز صاحب کی ایوان

کو وکیل مقرر کر کے اقرار کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا نیز وکیل

صاحب موصوف کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ برحلف دینے اقبال دعویٰ اور بصورت دیگر ڈگری

کرانے اجراء وصولی چیک روپیہ و عرضی دعویٰ کی تصدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت

ضرورت مقدمہ مذکور کی کل یا کسی جزوی کاروائی کے لئے کسی اور وکیل یا مختار صاحب قانونی کو اپنے ہمراہ اپنی

جگہ تقرر کا اختیار بھی ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی اور ویسے ہی اختیارات ہوں گے اور اس کا

ساختہ پر داخستہ مجھ کو منظور و قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ جو خرچہ و ہرجانہ اتوائے مقدمہ کے سبب ہوگا اس کے

مستحق وکیل صاحب ہوں گے۔ نیز بقایا رقم وصول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی پیشی مقام دورہ پر ہو یا

حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب موصوف پابند ہوں گے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں اور اگر مختار مقرر کردہ میں

کوئی جزو بقایا ہو تو وکیل صاحب موصوف مقدمہ کی پیروی کے پابند نہ ہوں گے۔ نیز درخواست برادر

استجارت نالش بصیغہ مفلسی کے دائرہ کرنے اور اس کی پیروی کا بھی صاحب موصوف کو اختیار ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ تحریر کیا تاکہ سند رہے

بمقام: قلمبرگ وکیل ایوان

17/01/2023

المقوم:

7